

13 ویں پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ، پاکستان ایئر فورس نے ہماکلب کو ایک یکطرفہ مقابلے کے بعد 0-5 گول سے ہرا دیا۔

راولپنڈی، (2 نومبر) ؛ 13 ویں پاکستان پریمیئر فٹ بال لیگ میں پاکستان ایئر فورس نے ہماکلب کو ایک یکطرفہ مقابلے کے بعد 0-5 گول سے ہرا دیا جبکہ پاکستان نیوی اور دفاعی چیمپئن خان ریسرچ لیبارٹریز (کے آر ایل)، راولپنڈی کی ٹیموں کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ پاکستان ایئر فورس کے صمد خان نے تین گول کر کے اپنی شاندار ہیٹ ٹرک مکمل کی، میونسپل سٹیڈیم، گذشتہ روز راولپنڈی میں کھیلے پہلے میچ وقفے تک پاکستان ایئر فورس کو ہماکلب کے خلاف گول کی برتری حاصل تھی، دوسرے ہاف میں پاکستان ایئر فورس نے مزید تین 0-3 گول کر کے مقابلہ 0-5 گول سے جیت لیا، فاتح ٹیم کی جانب سے صمد خان نے تین گول کر کے اپنی شاندار ہیٹ ٹرک مکمل کی جبکہ محمد ولید اور محمد عمران نے ایک، ایک گول کیا، ہماکلب کے کھلاڑی پاکستان ایئر فورس کے خلاف بے بس دکھائی دیئے جبکہ ان کے کھلاڑیوں کو گول کرنے کے کئی مواقع ملے۔ دوسرا کھیلا گیا میچ پاکستان نیوی اور دفاعی چیمپئن خان ریسرچ لیبارٹریز (کے آر ایل)، راولپنڈی کی ٹیموں کے درمیان 1-1 گول سے برابر رہا۔ وقفے تک کے آر ایل کی ٹیموں کو پاکستان نیوی کے خلاف ایک گول کی برتری حاصل تھی، دوسرے ہاف میں پاکستان نیوی نے گول کر کے مقابلہ 1-1 گول سے برابر کر دیا جو مقررہ وقت تک جاری رہا، دفاعی چیمپئن کے آر ایل کی طرف سے عمران خان نے پہلے ہاف کے 32 ویں میں منٹ گول کر کے اپنی ٹیم کو برتری دلانی اور دوسرے ہاف کے انجری وقت میں پاکستان نیوی کی جانب سے محمد عدیل نے گول کر کے مقابلہ 1-1 گول سے برابر کر دیا جو مقررہ وقت تک جاری رہا۔ (کل) بدھ کو لیگ کے مزید دو میچز کھیلے جائیں جائیں گے، پہلے میچ میں مسلم کلب کا مقابلہ پاکستان سول ایوی ایشن سے ہو گا جبکہ دوسرے میچ میں پاکستان واپڈا اور پاکستان نیوی کی ٹیمیں مدمقابل ہونگی